

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

یا حی یا قیوم

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَتْرَدِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ اسْتَغْفِرُكَ اللّٰهُ
الَّذِی لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاقْبَلْ اِلَیَّ - یا حی یا قیوم

تعارف کتاب النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم

دارالاحسان کتاب النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کی سعادت
پر اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل کے فیضانِ کرم کا شکر گزار ہے۔ الحمد للہ
حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا ویرضو

یہ مقدس مکتوب فرانس کے مشہور شہر پیرس کے شاہی عجائب گھر
سے دستیاب ہوا جیسے کہ مکتوب مقدس کے اخیر میں درج ہے۔
اس مقدس مکتوب کی اشاعت کا شرف اسلامیہ جمہوریہ پاکستان
کو پہلی مرتبہ نصیب ہوا اور دارالاحسان سے شائع کیا گیا۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَیْءٍ لِّعَظَمَتِهِ ط
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ ذَلَّ كُلُّ شَیْءٍ لِّعِزَّتِهِ ط وَالْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِیْ خَضَعَ كُلُّ شَیْءٍ لِمَلِكِهِ ط وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
الَّذِی اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَیْءٍ لِّقُدْرَتِهِ ط

ترجمہ: سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس کی عظمت کے آگے
ہر چیز عاجز ہے اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس کی عزت کے
سامنے سب چیزیں ذلیل ہیں اور سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جسکی
حکومت کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے اور سب تعریف اللہ تعالیٰ
کے لیے ہے جس نے ہر شے کو اپنی قدرت کے مطیع کر رکھا ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي تَاخِرُ اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پاس کی چیز (رحمت و بخشش) طلب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہزار نیکی لکھتے ہیں اور اس کے ہزار رُجے بلند کرتے ہیں اور ستر ہزار فرشتوں کو اس کے لیے قیامت تک استغفار کرنے کے لیے مقرر فرمادیتے ہیں۔

کنز العمال جلد اول ص ۲۰۵ شمارہ ۳۸۹

سُبْحَانَ الْقَائِمِ الدَّائِمِ ط سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ ط
سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ط سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ
وَبِحَمْدِهِ ط سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ط
سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى ط سُبْحَانَهِ وَتَعَالَى ط

ترجمہ: پاک ہے اللہ قائم، ہمیشگی والا پاک (وہ جو) حئی و قیوم ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ پاک ہے اللہ عظمت والا اور اسی کی تعریف ہے۔ وہ سُبُّوحٌ ہے، قُدُّوسٌ ہے، پروردگار ہے ملائکہ اور روح کا، پاک ہے بلند تر ذات پاک اور بلندی اسی کیلئے ہے۔

حضرت ابان رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہر روز ایک مرتبہ پڑھا سُبْحَانَ الْقَائِمِ الدَّائِمِ.... الخ تو وہ شخص موت سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا یا کسی اور کو دکھایا جائیگا

کنز العمال جلد اول ص ۲۰۵ شمارہ ۳۸۹،

احقر مکتوب علی غفرانہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَبِينَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِثْرَتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ
وَرِضَى نَفْسِكَ وَزِينَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

كِتَابُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(شروع کرتا ہوں) اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اندھیرے اور روشنی کو پیدا کیا

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ○ هَذَا

پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھیراتے ہیں یہ

كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کتاب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدِينِيِّ

علیہ وسلم نبی امی مکی مدنی

التَّهَامِيُّ الْحِجَازِيُّ الْإِبْطَحِيُّ صَاحِبُ الْقَصِيدِ

تہامی حجازی ابطحی عصا اور

وَالنَّاقَةِ وَالتَّاجِ وَالْكَرَامَةِ صَاحِبُ شَهَادَةٍ

اونٹنی والے ، تاج اور کرامت والے کلمہ شہادت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے کی طرف سے

إِلَى مُتَصَرِّفِ الدَّارِ وَالدِّيَارِ وَالزَّوَارِ وَ

گھروں اور بازاروں اور زیارت کرنے والوں اور

الْعَمَّارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ ۝

گھروں کے جنوں کے نام یہاں وہ رات کو آنے والا جو خیر سے آئے (جیسے مہمان)

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سَعَةً

اللہ کی تعریف اور درود شریف کے بعد ہمارے تمہارے لیے سچ میں وسعت ہے

فَإِنْ يَكُنْ طَارِقًا مُؤَلِّيًّا أَوْ مُؤَذِّيًّا أَوْ

اگر کوئی رات کو سر پھرا مؤذی آئے یا

خَدَعَنَا حَقًّا أَوْ بَاطِلًا أَوْ مُؤَذِّيًّا أَوْ مُفْتِنًا

ہمیں سچا جھوٹا دھوکا دے یا کوئی مؤذی پھاندے تو

فَاتْرِكُوا حَمَلَةَ الْقُرْآنِ وَانْطَلِقُوا إِلَى عِبْدَةٍ

قرآن مجید کے ماننے والوں کو چھوڑ دو اور بت پرستوں کے پاس

الْأَوْثَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَ

جاؤ تم پر آگ کے شعلے اور زہریلے دھوئیں چھوڑے

نَحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

جائیں گے پھر تم بدلہ نہیں لے سکتے اللہ کے نام سے جو رحم کرنے

الرَّحِيْمِ ۝ بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَلَا غَالِبَ

والا مہربان ہے اللہ کے نام سے اور اس کی امداد کے ساتھ اللہ کے سوا

إِلَّا اللّٰهُ وَلَا أَحَدٌ مِّثْلُ اللّٰهِ وَلَا شَيْءٌ سِوَى

کوئی غالب نہیں اور کوئی اللہ کا مثل نہیں اور اللہ کے سوا کچھ

اللّٰهِ وَبِسْمِ اللّٰهِ اسْتَفْتِحُ وَعَلَى اللّٰهِ اتَّوَكَّلُ

نہیں اور اللہ کے نام سے کھولتا ہوں اور اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں

حَامِلٌ كِتَابِي هَذَا فِي أَمَانٍ اللّٰهِ وَفِي حِفْظِهِ

میرا یہ نامہ اپنے پاس رکھنے والا اللہ کی امان میں ہے اور اس کی حفاظت میں ہے

وَفِي كَنْفِهِ وَفِي سِتْرِهِ أَيْنَ مَا كَانَ وَحَيْثُ

اور اس کی پناہ میں ہے اور اس کے پردہ میں ہے جہاں ہو اور جہاں

مَا تَوَجَّهَ لَا تَقْرَبُوهُ وَلَا تَفْرَعُوهُ وَلَا

جائے دیکھو اس کے قریب نہ جانا اور اس کو مت ڈرانا اور تکلیف

تَضَارُّوهُ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَنَائِمًا وَلَا فِي

نہ پہنچانا چاہے کھڑا ہو ، بیٹھا ہو ، سویا ہوا ہو ، نہ کھانے

الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

میں نہ پینے میں ، نہ رات میں ، نہ دن میں

وَلَا فِي يَوْمٍ وَلَا فِي نَهَارٍ وَلَا فِي بَرٍّ وَ

نہ کسی دن میں ، نہ کسی رات میں ، اور نہ خشکی میں ،

لَا فِي بَحْرٍ وَكَلَّمَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ حَامِلٍ

نہ سمندروں میں - اس نامہ کے حامل سے لاجول ولا قوۃ

كِتَابِي بِأَلْفٍ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

الا باللہ کے پہلے الف کے سنتے ہی بھاگ جاؤ۔

فَادْبِرُوا عَنْهُ بِإِلَهِ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ

الله ط بِاللّٰهِ الَّذِي هُوَ غَالِبٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

اللہ کے نام کے ساتھ جو ہر چیز پر غالب ہے

وَهُوَ أَعْلَىٰ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ

اور وہ ہر چیز سے اعلیٰ ہے اور وہ ہر چیز پر

شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ النَّبِيِّ

قادر ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی

الرَّحْمٰنِ الْمُبْعُوْتِ اِلَى الثَّقَلَيْنِ ○ اللّٰهُمَّ احْفَظْ

امی جو ثقلین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ان کے نام کے ساتھ۔ اے اللہ اس

حَامِلَ كِتَابِي هَذَا بِلِّ مَنْ عَلِقَ عَلَيْهِ

نامہ کے حامل کی حفاظت فرما بلکہ اس کی حفاظت بھی فرما جو ان ناموں کو

هَذِهِ الْأَسْمَاءُ بِالِاسْمِ الَّذِي هُوَ مَكْتُوبٌ

گلے میں لٹکائے اللہ کے اس نام سے جو عرش کے کنگروں پر

عَلَى سُرَادِقَاتِ الْعَرْشِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لکھا ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ الْغَالِبُ الَّذِي لَا يَغْلِبُهُ

محمد رسول اللہ ہے وہ غالب ہے اس پر کوئی چیز غالب

شَيْءٌ وَلَا يَنْجُو مِنْهُ هَارِبٌ فَأَعِيدَهُ

نہیں اور اس سے بھاگنے والا بچ نہیں سکتا میں اس کو اس

بِالْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَبِالْعَيْنِ الَّتِي لَا تَنَامُ

زندہ کی پناہ میں دیتا ہوں جس کو موت نہیں اور اس کی آنکھ کے تحت جو کبھی سوتی نہیں

وَالْعَرْشِ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ وَالْكَرْسِيِّ الَّذِي

اور جس کا عرش کبھی حرکت نہیں کرتا اور جس کی کرسی اپنی جگہ

لَا يَزُولُ وَبِالِاسْمِ الَّذِي هُوَ مَكْتُوبٌ فِي

نہیں چھوڑتی اور اس نام سے جو لوح محفوظ میں لکھا

اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَبِالِاسْمِ الَّذِي هُوَ مَكْتُوبٌ

ہوا ہے اور اس نام سے جو قرآن عظیم میں

فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي جُلَّ بِهِ

لکھا ہوا ہے اور اس نام سے جس کے ذریعے آنکھ بھینکنے سے

عَرْشُ بَلْقِيسَ إِلَى سُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ

پہلے بلقیس کا تخت اٹھا کر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ

السَّلَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ وَبِالْإِسْمِ

السلام کے پاس لایا گیا تھا اور اس نام سے

الَّذِي نَزَلَ بِهِ جِبْرَائِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

جو سوموار کو جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي

علیہ وسلم کے پاس لائے تھے (یعنی پہلی وحی) اور اس نام سے جو

هُوَ مَكْتُوبٌ فِي قَلْبِ الشَّمْسِ وَأَعِيدَهُ بِالْإِسْمِ

سورج کے قلب پر درج ہے اور میں اس کو اس نام کی

الَّذِي سَرَاهُ بِهِ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ

پناہ میں سوچتا ہوں جس سے بوجھل بادلوں کو چلاتا ہے اور رعد فرشتہ

الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ

اور دیگر فرشتے اس کے ڈر سے اس کی حمد پکارتے ہیں اور

بِالْإِسْمِ الَّذِي تَجَلَّى بِهِ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ

اس نام سے جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے لیے جلوہ گر

لِمُوسَىٰ ابْنِ عِمْرَانَ فَخَرَّ مُوسَىٰ صِعْقًا ط وَ

ہوا تھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ اور

يَا اسْمَ الَّذِي كُتِبَ بِهِ عَلَىٰ وَرَقِ الزَّيْتُونِ

اس نام سے جو زیتون کے پتے پر لکھا ہے اگر

وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ فَلَمْ يَحْتَرِقْ ۗ وَيَا اسْمَ

آگ میں ڈالا جائے تو نہ جلے اور اس نام سے

الَّذِي مَتَّىٰ بِهِ الْخِضْرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَىٰ

جس سے حضرت خضر علیہ السلام پانی پر چلے

الْمَاءِ فَلَمْ يَبْتَلِ ۗ قَدَمَاهُ ۗ وَيَا اسْمَ الَّذِي

تو ان کے تلوے نہ بھیگے اور اس نام سے جس سے

نَطَقَ بِهِ عِيسَىٰ وَهُوَ ابْنُ مَرْيَمَ فِي الْمَهْدِ

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام گود میں گویا ہوئے

صَبِيًّا ۗ وَأَبْرَأَ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ

اور پیدائشی اندھے اور پھلپھری کو اللہ کے حکم سے تندرست کیا

وَأَحْيَى الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَيَا اسْمَ الَّذِي

اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا اور اس نام سے جس سے

نَجَّىٰ بِهِ يُوسُفُ مِنَ الْجُبِّ ۗ وَيَا اسْمَ الَّذِي

حضرت یوسف علیہ السلام نے اندھیرے کنوئیں سے نجات پائی اور اس نام سے جس سے

بِنَجَايِهِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ نَارِ تَمْرُودَ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی آگ سے نجات پائی

وَحِيْنَ اَلْقِيَ فِي النَّارِ وَ بِاَلِاسْمِ الَّذِي بِنَجَايِهِ

جب اُن کو آگ میں ڈالا گیا اور اس نام سے جس سے حضرت یونس

يُونُسُ مِنْ بَطْنِ الْحَوْتِ وَ بِاَلِاسْمِ الَّذِي

علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی اور اس نام سے جس سے

فُلِقَ بِهِ الْبَحْرُ لِمُوسَى ابْنِ عِمْرَانَ وَ جَعَلَ

حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے لیے دریا پھٹ گیا اور بڑے

كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيْمِ وَ اَعْيَدَهُ بِتِسْعِ

بڑے پہاڑوں کی طرح ہو گیا اور میں اس کو ان نو آیتوں

اَيَاتِ الَّتِي نَزَلَتْ عَلٰى مُوسَى ابْنِ عِمْرَانَ

کی پناہ میں دیتا ہوں جو طور سینا پر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام

بِطُورِ سَيْنَاءَ وَ اَعْيَدَهُ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ نَاطِرَةٍ

پر نازل ہوئیں اور اس کو ہر نظرید سے پناہ میں دیتا ہوں

وَ كُلِّ اُذُنٍ سَامِعَةٍ وَ اَلْسِيْنِ نَاطِقَةٍ وَ اَيْدِيٍّ

اور سننے والے کانوں سے اور بولنے والی زبان سے اور پکڑنے

بِاَطْسِنَةٍ وَ قُلُوْبٍ وَ اَعْيَادٍ فِيْ صُدُوْرٍ خَاوِيَةٍ

والے ہاتھوں اور دلوں میں یاد رکھنے والے خراب و خستہ سینوں میں

وَأَنْفُسٍ كَافِرَةٍ وَمِنْ كُلِّ مَنْ يَعْمَلْ عَمَلًا

اور کافروں سے اور ہر اس شخص سے جو بڑے کام

السُّوءِ وَمِنْ سُوءِ نَسْرِ التَّوَالِيْعِ وَالسَّحَرَةِ وَ

کرتا ہے اور ہر پیچھے لگنے والے اور جادوگر کی بُرائی سے اور

مَنْ فِي الْجِبَالِ وَالْأَرْضِ وَالْخَرَابِ وَالْعُرَانِ

پہاڑ زمین اجاڑ آباد اور

وَسَاكِينِ الْأَجَامِ وَسَاكِينِ الْبَحَارِ وَسَاكِينِ

ذخیرہ میں رہنے والوں سے اور سمندوں میں رہنے والوں سے اور اندھیروں میں

ضَيْقِ الظُّلْمِ وَأَعْيَادِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيَاطِينِ

رہنے والوں سے اور میں اس کو شیطانوں اور ان کے لشکروں کے شر

وَجَنُودِهِمْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ عَوَلٍ وَعَوْلَةٍ وَ

سے پناہ میں دیتا ہوں اور جنوں اور جنٹیوں کے ڈیروں سے پناہ میں دیتا ہوں اور

سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ وَسَاكِينِ وَسَاكِنَةٍ وَ

جادوگر اور جادوگرنیوں کے شر سے اور رہنے والوں اور رہنے والیوں سے اور

تَابِعٍ وَتَابِعَةٍ وَمِنْ شَرِّهِمْ وَشَرِّ آبَائِهِمْ

پیچھے لگنے والوں اور والیوں سے اور ان کے شر اور ان کے باپوں

وَأُمَّهَاتِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ وَبَنَاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ

ماؤں بیٹیوں بیٹیوں ماموں

وَعَمَّا تِيْمٌ وَخَالَاتِيْمٌ وَقَرَابِيْمٌ وَمِنْ شَرِّ

اور چچاؤں خالاؤں اور رشتہ داروں کے شر سے اور ان کے

الْمَوَارِدِ وَالْمَحَرَّةِ وَالطَّيَّارَاتِ وَمِنْ شَرِّ

گھاٹوں اور منزلوں اور اڑان کے شر سے اور پہاڑوں

سَاكِيْنَ الْجِبَالِ وَالتُّرَابِ وَالْعُمُرَانِ وَالرِّيَاضِ

زمین آباد کھیت باغ اُجاڑ کے رہنے والوں کے

وَالْخَرَابِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ فِي الْبِرِّ وَالْبَحْرِ

شر سے اور جو نشکی سمندر پہاڑوں میں رہتے ہیں

وَالْجِبَالِ وَمَنْ يَسْكُنُ فِي الظُّلُمَاتِ وَمِنْ

ان کے شر سے اور جو اندھیروں میں رہتے ہیں اور جو

شَرِّ مَنْ يَسْكُنُ فِي الْعِيُونِ وَمِنْ يَمِيْنِي فِي

چشموں میں رہتے ہیں اور جو بازاروں میں چلتے پھرتے

الْاَسْوَاقِ وَيَكُوْنُ مَعَ الدَّوَابِّ وَالْمَوَاشِي

ہیں اور جو چوپایوں اور مواشی

وَالْوَحْشِ وَيَسْتَرِقُ السَّمْعَ وَمِنْ اِذْقِلِ

اور وحشی جانوروں میں رہتے ہیں اور جو کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور اس سے

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ يَذُوْبُ كَمَا يَذُوْبُ الرِّصَاصُ

جو لا الہ الا اللہ کے کہنے سے سکھ اور لوہے کی طرح آگ پر

وَالْحَدِيدَ عَلَى النَّارِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَكُونُ فِي

پگھل جاتے ہیں اور جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے

الْأَرْحَامِ وَالْأَجَامِ وَالْأَطَامِ وَمِنْ شَرِّ مَا

اور جنگلوں اور ٹیلوں کے شر سے اور وساوس کی شرارت

يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ

سے جو لوگوں کے سینوں میں جن اور انسان ڈالتے ہیں

وَإِعْيِدُهُ مِنَ الْخَطِرِ وَالنَّظْرِ وَالْكِبْرِ هِيَ شَرُّ

اور میں اس کو ہر خطرہ اور نظر سے اور تکبر سے پناہ میں دیتا ہوں ہر زندہ

هِيَ مَهْلًا وَاللَّهُ هُوَ أَجَلٌ وَأَعَزُّ وَأَقْدَرُ مِنْ

سے پہلے زندہ ٹھیرا اللہ بزرگ عزت والا اور قدرت والا ہے

الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ وَإِعْيِدُهُ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ بَاطِنَةٍ

جن اور انسان سے ، اور میں اس کو ہر باطنی آنکھ اور سننے والے کانوں

وَأَذُنٍ سَامِعَةٍ وَمِنْ شَرِّ الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ

سے پناہ میں دیتا ہوں داخل اور خارج کی شر سے

وَمِنْ شَرِّ عَفَّارِيَتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَمِنْ شَرِّ

اور سرکش جنوں اور انسانوں کی شر سے پناہ میں دیتا ہوں اور ہر شر والے کی

كُلِّ ذِي شَرٍّ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ غَادٍ وَرَائِحٍ وَمِنْ

شر سے اور ہر صبح اور ہر شام کو آنیوالے کی شر سے پناہ میں دیتا ہوں اور

شَرِّ سَاكِنِ الرِّيَّاحِ مِنْ عَجَبِي وَفَصِيحِ وَنَائِمِ

آنڈھیوں میں رہائش پذیر عجمی اور پڑھے لکھے کی شر سے اور سوئیوں کے

وَيَقْظَانَ وَاعْيِدَهُ مِنْ شَرِّ مَنْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ الْإِبْصَارُ

اور جاگنے والے اور جو آنکھیں دیکھتی ہیں ان سے پناہ میں دیتا ہوں

وَتَضَمُّمِ إِلَيْهِ الْقُلُوبِ وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْأَرْضِ

اور جن کو دل چھپاتے ہیں اور زمین اور کناروں میں آباد رہنے

وَسَاكِنِ الزَّوَايَا وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَصْنَعُ الْخَطِيئَةَ

والوں کی شر سے پناہ میں دیتا ہوں اور ہر اس انسان کی شر سے پناہ میں دیتا ہوں

وَيُولَعُ بِهَا وَمِنْ شَرِّ مَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ الْإِبْصَارُ

جو گناہ کے ترغیب ہیں اور اس میں مبتلا ہیں اور اس کی شر سے جن کو آنکھیں دیکھتی ہیں

وَاعْيِدَهُ مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَجَنُودِهِ وَمِنْ

اور اس کو ابلیس اور اس کے شکر کی شر سے پناہ میں دیتا ہوں اور شیطانوں کی شرارت

شَرِّ الشَّيَاطِينِ ○

سے پناہ میں دیتا ہوں۔

الوثائق السياسية ۴۲۳

للعهد النبوي رضى الله عليه وسلم، والخلافة الراشدة

للدكتور محمد حميد الله في باريس فرنسا

پیرس - فرانس

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ - وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - آمِينَ

○

للتقسيم والتوزيع في سبيل الله

لاستفاعة والنفع

لجميع أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

لمرضات الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم

مُسْتَفِيضٌ إِلَى أَحْسَنِكُ

دربار مصطفوي، خضري، علوي، سعدي، اوليائي

علوي، هجويري، قادري، صابري، قلندري، مجدي

غفوري، رحيمي، كرمي، اميري

○

ابو ايس محمد رکت علی لودھيانوی عفی عنہ

المهاجر الى الله والمتوكل على الله العظيم

امروز سعید : چهارشنبه ۲۲ رمضان المبارک ۱۴۱۵ هجری القدر

کتاب النبی الامی صلوات الله علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا لولا كنا لنهتدي لہذا ولولا انَّا كنا من الخاسرين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا لولا كنا لنهتدي لہذا ولولا انَّا كنا من الخاسرين

الحمد لله الذي جعل الطلقات والنثر ثم الذين كفروا يترفون يقولون ○ هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الامي المدني القاري الاممي صاحب القنبر والثاقه والتاجر والكرامة صاحب شهاة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى مصروف الدار والديار والزوار والعتار الا طارقا بطرق يخبر ○ اما بعد فان لنا ولكم في الحق سعة فان يكن طارقا مؤذيا او مؤذيا حقنا او باطلا او مؤذيا او مؤذيا فانكروا حملة القرآن وانطلقوا الى عبدة الاوثان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنصرون ○ بسم الله الرحمن الرحيم ○ يا نعم الله ويا الله ولا غالب الا الله ولا احد مثل الله ولا شئ يبيد الله وبهم الله استفتح وعلى الله اتوكل حابل كتابي هذا في امان الله وفي خطبه وفي كفه وفي ستره اين ما كان وحيث ما توجه لا تقربوه ولا تقزعوه ولا تضاروه قائما وقاعدا وتائما ولا في الاكل والشرب ولا في الليل والنهار ولا في يوم ولا في ليل ولا في بحر ولا في بطن سموت حابل كتابي بالغ لا حول ولا قوة الا بالله فادبروا عنه بلا اله الا الله محمد رسول الله يا الله الذي هو غالب على كل شئ وهو اعلى من كل شئ وهو على كل شئ قدير ○ وسبحتم رسول الله النبي الامي المبعوث الى الثقلين ○ اللهم احفظ حابل كتابي هذا بل من خلق عليه هذه الاسماء بالاسم الذي هو مكتوب على سراوات العرش انه لا اله الا الله محمد رسول الله هو القالب الذي لا يخلو شئ ولا ينجو منه هارب فاعبده بالاسم الذي لا يموت وبالصين التي لا تنام والعرش الذي لا يتحرك والكسيبي الذي لا يزول وبالاسم الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ وبالاسم الذي هو مكتوب في القرآن العظيم وبالاسم الذي سجل به عرش بلقيس الى سليمان ابن داود عليه السلام قبل ان يرتد اليه طوقه وبالاسم الذي نزل به جبرائيل على النبي صط الله عليه وسلم في يوم الاثنين وبالاسم الذي هو مكتوب في قلب الشمس واعبده بالاسم الذي سراه به السحاب الثقاب ويسبح الزعد محمد والمهكة ون صوفته وبالاسم الذي جعل به الرب عز وجل لموسى ابن عمران فخر موسى صمعا وبالاسم الذي كتب به على ورق الزيتون والقي في النار فلم يحترق وبالاسم الذي مشى به الخضر عليه السلام على الماء فلم يبتل قدماه وبالاسم الذي نطق به عيسى وهو ابن مريم في المهد صيت وازمركه والابن باذن الله واحيي الموتى باذن الله وبالاسم الذي نطق به يوسف من الجب وبالاسم الذي نطق به ابراهيم عليه السلام من نار تمود حين القى في النار وبالاسم الذي نطق به يوسف من بطن العوت وبالاسم الذي نطق به المرحوم موسى ابن عمران وجعل كل فري كالظلم العظيم واعبده بآيات التي نزلت على موسى ابن عمران بطور سيناء واعبده من كل عين تاظرة وكل اذن سامعة والسين ناطقة وايدى باطشة وقلوب واعية في صدور خاوية وانبيى كاذبة ومن كل من يعمل عمل التوه ومن سوت شئ التولج والسحرة ومن في الجبال والارض والغراب والفرس وسكن الاجرام وسكن امكار وسكن ضيق الظلم واعبده من شئ الشياطين وجنودهم ومن شئ كل غول و غولقة وساحرة وساحرة وسكنة وتابع وتامسة ومن شئهم وشئ ابايهم وامهاتهم وابنائهم وبنائهم وخواصهم وخاليتهم وقرانهم ومن شئ الموارد والمحرة والطيارات ومن شئ ساكن الجبال والتراب والعمان والرياح والغراب ومن شئ من في البر والبحر والجبال ومن تسكن في الطلمات ومن شئ من يسكن في الصون ومن يمشي في الاسواق ويكون مع الدواب والمواشي والوحوش ويسرق السمع ومن لا ذوق الا اله الا الله يذوب كما يذوب الرصاص والحديد على النار ومن شئ ما يكون في الارحام والاجرام والاطام ومن شئ ما يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس واعبده من الخطر والنظر والكبر هيا شرا هيا مهلا د الله هو اهل واحر واقدم من الهنة والناس واعبده من كل عين باغية واذن سامعة ومن شئ الدليل والخارج ومن شئ عفاريت الجن والانس ومن شئ كل ذي شئ ومن شئ كل غار ورايح ومن شئ ساكن الزواجر من عصي وقصير ونائم ويقظ واعبده من شئ من تنظر اليه الاصل وتضم اليه القلوب ومن شئ ساكن الارض وساكن الزوايا ومن شئ من تصنع العظيمة ويولع بها ومن شئ ما تنظر اليه الا بصار واعبده من شئ ابليس وجنوده ومن شئ الشياطين ○

یہ مقدس مکتوب پیرس (فرانس) کے شاہی عجائب گھر سے دستیاب ہوا
پاکستان میں اسکی پہلی بار اشاعت کا شرف دار الاحسان کو نصیب ہوا

یا قیوم

یا حی


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا سَأَلَ اللّٰهُ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَبِيْنَا مُحَمَّدِنَا النَّبِيِّ الْاَتْقٰی وَعَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَتْرَتِهِ بَعْدَ دَعْوٰتِكَ وَبَعْدَ دَخْلِكَ وَرَضٰی نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَاقْرُبْ اِلَيْهِ - يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

کتاب النبی الای

اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا وَجَبِيْنَا
مُحَمَّدِنَا النَّبِيِّ
الْاَتْقٰی وَعَلٰی اٰلِهِ
وَاصْحَابِهِ وَعَتْرَتِهِ

سلسلہ اشاعت ۲۱۴



کرۃ ارض پر بسنے والے تمام مسلمان بھائی آپس میں متحد ہوں - یا حی یا قیوم آمین

احقر برکت علی لودھیانوی عفو عنہ

المقام النجاف لصحافت لمقبول لمصطفین، دار الاحسان فیصل آباد پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَعِزَّتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ
اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ



یہ درود شریف اور استغفار حضرت خواجہ خواجگان سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ

کا عمل اور سلسلہ عالیہ

قادریت، مجددیت، غفوریت، رحیمیت، کریمیت، امیریت

کا موروثہ درود شریف ہے

دَا اِلْحِسْبِكَ كَمَا هُوَ عَقِيدَتِكَ اَوْ طَالِبِ اِكْبَادِ مَوْتِكَ اِپْنِے اَوْ پَر لَازِم قَرَار دے، حَسْبُ قُوَّتِ
اَوْ كُنْجَانِشِ وَقْتِ اِسْكَ پُڑھنے كِي تَعْدَادِ خُودِ هِي مَقْرَر كَر لِيں۔ مَثَلًا ہر نماز كے بَعْدِ كَمِ اَز كَم كِيَا رُ بَارِ ضَرْبِ پُڑھیں، عَشَارِ
كِي نَمَاز كے بَعْدِ اِي تَجْدِ وَفَجْرِ كے بَعْدِ كَثْرَتِي پُڑھیں مَثَلًا اِي كَم تِسْرَا، اِي تِسْرَا بَارِ، اِي اِي تِسْرَا بَارِ اِي اَسْ سَے بھي زيَادَه بَارِ ضَرْفِ
اِي كَبَاتِ يَدْرِيں كِه جَو تَعْدَادِ اِي كَبَارِ مَقْرَر كَرِيں، اُس پَر مَدَامَتِ كَحْصِيں!

”مَدِيں اَعْلَى“

جناب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب لندن

صاحب
منجانب حاجی محمد سعید
10/3/94

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لِي لِقَاءَ الْإِلَهِ يَأْتِي قَلْبِي اللَّهُمَّ صَلِّ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيَّ وَمَوْلَانَا وَعَلَىٰ عَائِلَتِكَ
 النَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْمُرْسَلِينَ كُلِّ مَعْزُومٍ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِنَّكَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 الْعَلِيِّ الْقِيَمِ وَأَيُّوبَ النَّبِيِّ يَأْتِي قَلْبِي

قُلْ

عَشِقُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

مَذْهَبِي وَحِبِّي مِلَّتِي

وَطَائِفَتِي مَنْزِلِي

(یہ کہہ) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میرا

مذہب، محبت میری ملت اور اتباع میری منزل



ابو انیس محمد برکت علی لودھی پانوی عنہ

